

# الأصول الثلاثة

لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

الصف والإخراج والمراجعة

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

٠٦ ٤٢٣٤٤٦٦

eBook

# الأصول الثلاثة

للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

الصف والإخراج والمراجعة

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

٤٢٣٤٤٦٦

كتاب ----- الأصول الثلاثة

تأليف ----- امام محمد بن عبد الوهاب

ناشر ----- الهدى پبلیکیشنز، اسلام آباد

ایڈیشن ----- اول

978-969-8665-74-6 ----- ISBN

تعداد ----- 3000

تاریخ اشاعت ----- فروری 2015ء

قیمت -----

ملنے کے پتے

7-اے کے بروہی روڑ H-11/4 اسلام آباد، پاکستان  
+92-51-4866125-9      +92-51-4866130-1      فون: salesoffice.isb@alhudapk.com

اسلام آباد

30-اے سندھی مسلم کو آپریٹو ہاؤس نگ سوسائٹی کراچی، پاکستان  
+92-21-34169557      +92-21-34169588      فون:

کراچی

PO Box 2256 Keller TX 76244  
+1-817-285-9450      +1-480-234-8918      فون:  
www.alhudaonlinebooks.com

امریکہ

5671 McAdam Rd ON L4Z IN9 Mississauga Canada  
+1-905-624-2030      +1-647-869-6679      فون:  
www.alhudainstitute.ca

کینیڈا

14 Wangey Road Chadwell Heath  
Essex RM6 4AJ London UK  
+44-20-8599-5277      +44-78-8979-0369      فون:  
alhudaproducts.uk@gmail.com

برطانیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© AL-HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

# الأصول الثلاثة

## للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

إِعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجْبُ عَلَيْنَا تَعْلُمُ أَرْبَعَ مَسَائِلَ:

**الْأُولَى:** الْعِلْمُ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.

**الثَّانِيَةُ:** الْعَمَلُ بِهِ.

**الثَّالِثَةُ:** الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

**الرَّابِعَةُ:** الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

بِالصَّابِرِ (٣) ﴾ [سورة العصر].



قال الشافعی رحمة الله تعالى: ((لو ما أنزل الله حجّة على خلقه إلا هذه السورة لکفتهم)).

وقال البخاري رحمة الله تعالى: ((باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِبِكَ﴾ [محمد: ١٩]. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل)).

اعلم - رحمة الله - أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، تعلم هذه المسائل الثلاث ، والعمل بهن:

**الأولى:** أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولًا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.



**والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا \* فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخْذَنَاهُ أَخْذًا وَبِيَلًا \*﴾ [المزمول: ١٥ - ١٦].

**الثانية:** أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي أَنْ يُشَرِّكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ لَا مَلَكٌ مُقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

**والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهُ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨].

**الثالثة:** أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحْدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مَوَالَةً مِنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبًا، **والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادِونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ



وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْرَاجَهُمْ  
أَوْ عَشِيرَتِهِمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ  
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢].

اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن الحنيفيَة ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾

[الذاريات: ٥٦].

ومعنى يعبدون : يُوَحِّدون.



وأعظم ما أمر الله به: التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.

والدليل قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ﴾ [النساء: 36].

فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟

فقل: معرفة العبد ربّه، ودينه، ونبيه محمدًا ﷺ.

## الأصل الأول

فإذا قيل لك: من ربّك؟

فقل: ربّ الله الذي ربّاني وربّى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه،



**والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ۲]. وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

**فَإِذَا قِيلَ لَكَ:** بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟  
**فَقُلْ:** بِآيَاتِهِ وَخَلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ، وَمِنْ مَخلوقاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنُهُمَا،  
**والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ۳۷]، **وَقَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ



يَطْلُبُهُ حَيْثِيَاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ  
بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ . [الأعراف: ٥٤].

والربُّ هو: المَبْوُدُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا  
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  
فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بُنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ  
بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* ﴾ [البقرة: ٢١- ٢٢].

قالَ ابنُ كَثِيرٍ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ((الْخَالِقُ هِذِهِ الْأَشْيَاءُ  
هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلِّعْبَادَةِ)).



وأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ التِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، مِثْلُ: الْإِسْلَامُ،  
وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ، وَمِنْهُ الدُّعَاءُ، وَالخُوفُ،  
وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوْكُلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالخُشُوعُ،  
وَالخُشِيشَةُ، وَالإِنَابَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَاذَةُ،  
وَالاسْتِغَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ  
أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ التِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، كُلُّهَا لِلَّهِ.

**وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهُ فَلَا  
تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجِنْ: ١٨]. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا  
شَيئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ.

**وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:** ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
الْكَافِرُونَ ﴾ [المُؤْمِنُونَ: ١١٧].

وَفِي الْحَدِيثِ: (( الدُّعَاءُ مُنْحُ الْعِبَادَةِ )).



والدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي  
أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي  
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ  
وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو  
لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ  
أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكِّلِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ  
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣].

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالخُشُوعِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى:  
﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا



رَغْبَاً وَرَهْبَاً وَكَانُوا النَّا خَاسِعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠].

وَدَلِيلُ الْإِنْتَابَةِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤].

وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ١]. وَفِي الْحَدِيثِ : ((إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ)).

وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١].

وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩].



**وَدَلِيلُ الذِّبْحِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي  
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٣].**  
**وَمِنَ السُّنْنَةِ : (( لَعْنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ )).**  
**وَدَلِيلُ النَّذْرِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ  
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإِنْسَان: ٧].**

## **الأصل الثاني**

### **معرفة دين الإسلام بالأدلة.**

**وَهُوَ الْإِسْلَامُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالْإِنْقِيادُ لَهُ  
بِالطَّاعَةِ، وَالبراءَةُ مِنَ الشَّرِكِ وَأَهْلِهِ.**

**وَهُوَ ثَلَاثَ مَرَاتِبٍ : الإِسْلَامُ ، وَالإِيمَانُ ،  
وَالإِحْسَانُ ، وَكُلُّ مَرَتبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.**



فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ  
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ،  
وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.  
فَدَلِيلُ الشَّهادَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ۱۸].  
وَمَعْناهَا: لَا مَعْبُودٌ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، (لَا إِلَهَ)  
نَافِيًا مَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. (إِلَّا اللَّهُ) مُثِيبًا العِبَادَةَ  
لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ  
شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ.

وَ تَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوضّحُهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ  
قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلَّا  
الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي



عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ \* ﴿[الزخرف: ٢٦-٢٨].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ . [آل عمران: ٦٤].

وَدَلِيلُ شَهادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبَة: ١٢٨].

وَمَعْنَى شَهادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ : طَاعَتْهُ فِيهَا أَمْرٌ ، وَتَصْدِيقَهُ فِيهَا أَخْبَرَ ، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ ، وَأَلَا يُعْبُدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

© AL-HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

وَدِلْيُلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ،  
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ حُنَفَاءٌ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ  
دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وَدِلْيُلُ الصِّيَامِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وَدِلْيُلُ الْحَجَّ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْجٌ  
الْبَيْتُ مِنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].



## المرتبة الثانية:

الإيمانُ: وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا  
قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ  
الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاةُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

وأركانه ستة: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،  
وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السَّتَّةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى:  
﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

ودليل القدر ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ  
بِقَدْرٍ﴾ [القمر: ٤٩].



### المرتبة الثالثة:

**الإحسان:** رُكْنٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)).

**والدليل ، قوله تعالى:** ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

**وقوله تعالى:** ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقْلِبَكَ فِي السَّاجِدِينَ \* إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* ﴾ . [الشعراء: ٢١٧ - ٢٢٠].

**وقوله تعالى:** ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٦١].

**والدليل من السنة:** حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ

© AL-HUDA INTERNATIONAL WELFARE FOUNDATION

عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ  
الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرٌ  
السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ،  
فَأَسَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،  
وَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: ((أَنْ  
تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ  
الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحْجِ  
الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)). قَالَ: صَدَقْتَ.  
فَعَجِبَنَا لِهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ  
الإِيمَانِ، قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،  
وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌ))  
قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ  
كَأْنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)). قَالَ أَخْبِرْنِي



عَنِ السَّاعَةِ قَالَ ((مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ  
السَّائِلِ)). قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ ((أَنْ  
تَلَدَّ الْأُمَّةُ رَبِّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَّةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ  
الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ)) قَالَ فَمَضَى. فَلَبِثَنَا  
مَلِيًّا. فَقَالَ ((يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلُ)) قُلْنَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ((هَذَا جِبْرِيلُ أَتَأْكُمْ  
يُعَلِّمُكُمْ أَمْ دِينُكُمْ)).

### الأصل الثالث

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ،  
وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ بْنِ هَاشِمٍ ،  
وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ ، وَالْعَرَبُ  
مِنْ ذُرِيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ، عَلَيْهِ وَعَلَى



نَبِيًّا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ  
وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ  
وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا. نُبِيٌّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدٍ ((أَقْرَأَ)) وَأُرْسِلَ بِ  
((الْمُدَثَّرِ)). وَبَلْدُهُ مَكَّةُ، بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ  
الشَّرِكِ، وَيَدْعُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ.

وَالدَّلِيلُ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَثَّرُ \* قُمْ فَانِذْرْ \*  
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \*  
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ \* وَلَرَبِّكَ فَاصْبِرْ \* ﴾ [المدثر: ۱-۷].  
وَمَعْنَى قُمْ فَانِذْرْ: يُنذِرُ عَنِ الشَّرِكِ وَيَدْعُونَ إِلَى  
التَّوْحِيدِ.

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ: عَظِيمُهُ بِالْتَّوْحِيدِ.

وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ أَيْ: طَهَّرَ أَعْمَالَكَ عَنِ الشَّرِكِ .



وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، الرِّجْزُ: الْأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا  
تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا ، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا.  
أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ  
العَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ  
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ،  
وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَهِيَ الْاِنْتِقَالُ مِنْ  
بَلْدِ الشَّرِكِ إِلَى بَلْدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ  
السَّاعَةُ.

وَالدَّيْلُ ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ  
الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٍ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا  
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَمَّا تَكُونُ أَرْضُ اللَّهِ



وَاسِعَةً فَتَهَا جِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَاهْمَ جَهَنْمُ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ  
سَبِيلًا \* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
عَفُوًا غَفُورًا \* ﴿النساء: ٩٧-٩٩﴾ .

وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي  
وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

قالَ الْبَغْوَيُ رَحْمَهُ اللَّهُ: (( سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ  
فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي مَكَّةَ لَمْ يُهْبِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ  
بِاسْمِ الْإِيمَانِ )) .

والدليل على الهجرة من السنة، قوله ﷺ: (( لا  
تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ  
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا )) .



فَلَمَّا اسْتَقَرَ فِي الْمَدِينَةِ، أَمِرَ بِيَقِيْهِ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ،  
مِثْلُ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحِجْرِ، وَالْأَذَانِ، وَالْجَهَادِ،  
وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ  
مِنْ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ. أَخْذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ،  
وَبَعْدَهَا تُؤْفَىٰ، صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَدِينُهُ  
بَاقٍ.

وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيْرٌ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرٌّ إِلَّا  
حَذَرَهَا مِنْهُ. وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ،  
وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ.  
وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَرَهَا مِنْهُ: الشُّرُكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ  
اللَّهُ وَيَأْبَاهُ، بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ  
طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. وَالدَّلِيلُ،  
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾



جَمِيعاً ﴿الأعراف: ١٥٨﴾ . وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ  
وَالدَّلِيلُ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  
دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ  
الإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْقِتِهِ ﴿عَلَيْهِ الْحَمْدُ﴾ ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ  
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ  
تَخْصِصُونَ (٣١) ﴿الزمر﴾ .

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبَعْثُونَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  
﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ  
تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥].

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً \*  
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً \*﴾ [نوح: ١٧ - ١٨].



وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسِبُونَ وَمَجْرِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ .  
 والدليل ، قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
 فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَأُوا إِلَيْهِمْ عَمَلُوا وَلِيَجْزِيَ  
 الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١] .  
 وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ ، والدليل قوله تعالى :  
 ﴿ رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَعْثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي  
 لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾  
 [التغابن: ٧] .

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ،  
 والدليل ، قوله تعالى : ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
 لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾  
 [النساء: ١٦٥] .



وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ ،  
وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أُولَئِمْ نُوحَ،  
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْنَا نُوحٍ  
وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [النساء: ١٦٣].

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ  
يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَا هُمْ عَنْ عِبَادَةِ  
الطَّاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا  
فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا  
الطَّاغُوتَ﴾ [آلْهُجَّةِ: ٣٦].

وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالْطَّاغُوتِ،  
وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ. قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحْمَهُ اللَّهُ: ((مَعْنَى  
الْطَّاغُوتِ مَا تَجَاوِزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ  
مَتَّبِعٍ، أَوْ مُطَاعٍ)).



وَالْطَّوَاغِيْتُ كَثِيرُوْنَ، وَرُؤُوْسُهُمْ خَمْسَةُ: إِبْلِيسُ  
لَعْنَهُ اللَّهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ  
إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَ شَيْئاً مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ،  
وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

والدليل ، قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ  
الرُّشْدُ مِنِ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامٌ لَهَا وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهذا هو معنى : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ).  
وفي الحديث: (( رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ  
الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَمَتِ الْأَصْوَلُ الْثَّلَاثَةُ .



الہدی اپک نظر میں

الہدی اپنی شعلہ ویلفیر فاؤنڈیشن پاکستان، قرآن و سنت کی تعلیم اور خدمتِ خلق کے کاموں میں 1994ء سے کوشش ہے۔ الحمد للہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس کی شاخیں اسی مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ فاؤنڈیشن کے تحت درج ذیل شعبہ چات کام کر رہے ہیں۔

**شعبہ تعلیم و تربیت:** اس شعبہ کے تحت قرآن و سنت کی تعلیم اور طالبات کی تربیت و کردار سازی کے لیے مختلف دورانیے کے درج ذیل کورسز کروائے جاتے ہیں:

- ٠۔ تعلیم القرآن: مکمل قرآن مجید کا لفظی ترجمہ و تفسیر، تجوید، حدیث و سیرت النبی ﷺ اور فقہ العبادات پر بنی کورسز۔
  - ٠۔ تعلیم الحجۃ اور تحفظ القرآن: قرآن مجید کو درست پڑھنے اور حفظ کے کورسز ہیں۔
  - ٠۔ تعلیم الحدیث: صحیح بخاری، ریاض الصالحین کے منتخب ابواب اور علوم الحدیث پر بنی ہیں۔
  - ٠۔ روشنی کا سفر: یہ کورس کم پڑھی لکھی لڑکوں کے لیے اسلامی تعلیمات پر مشتمل کورس ہے۔
  - ٠۔ روشنی کی کرن: ناخواندہ خواتین والڑکوں کی تعلیم و تربیت کورس ہے۔
  - ٠۔ ریائٹنگ: انگریزی زبان میں ہفتہوار تعلیمی پروگرام ہے۔
  - ٠۔ منار الاسلام: بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہفتہوار پروگرام اور ناظرہ قرآن کی تعلیم کے لیے مقناح القرآن پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔
  - ٠۔ فہم القرآن: رمضان المبارک میں روزانہ ایک پارہ کے ترجمہ اور فہم پر بنی پروگرام ہے۔
  - ٠۔ سمر کورسز: گرمیوں کی چھپیوں میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر عمر کی خواتین کے لیے مختصر دورانیے کے کورسز۔
  - ٠۔ خط و کتابت کورسز: بذریعہ خط و کتابت اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔
  - ٠۔ شعبۂ نشر و اشاعت: الہدی پبلیکیشنز کے تحت مختلف موضوعات پر کتب، کارڈز، کتابیں اور پکنلش چھپوائے جاتے ہیں اور ان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازاں قرآن مجید کی قراءت، ترجمہ و تفسیر، حدیث و سیرت النبی ﷺ، مسنون دعاؤں اور روزمرہ زندگی کے مسائل سے متعلق رہنمائی پر بنی آڈیو کیسٹس (Audio), ہی ڈریز (c.d) اور وی سی ڈریز (v.c.d) تاریکی حاصل ہیں۔

**شعبیہ خدمتِ خلق:** کے تحت متعدد معاشرتی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں مثلاً

- مستحق طلبہ کے لیے تعلیمی و ظاائف رمضان المبارک میں راشن کی فراہمی عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی قربانی
  - دینی و سماجی رہنمائی کچھ بستیوں میں تعلیمی اور رفاهی کام قدرتی آفات کے موقع پر مکمل ضروری امداد
  - کنوؤں کی کھدائی کے ذریعے خلک علاقہ جات میں پانی کی فراہمی

نمبر شر	نام کتاب و چاٹل	تھم	قیمت آرڈر	مؤلف	نام کتاب و چاٹل	تھم	قیمت آرڈر	مؤلف
1	قرآن مجید۔ لفظی ترجمہ (سید بارہ) (اردو)	کتاب		ذکر امداد حبیثی	قرآن مجید۔ لفظی ترجمہ آیات اور سورتیں (اردو، انگلش) (الہدیٰ شعبۃ التحقیق)	کتاب		ذکر امداد حبیثی
2					قرآن مجید کی مشتبہ آیات اور سورتیں (اردو، انگلش) (الہدیٰ شعبۃ التحقیق)			
3					قرآن مجید کی مشتبہ سورتیں (اردو، انگلش)			
4	منتبہ آیات قرآنیہ (اردو)							
5	قرآن کریم اور اس کے پढہ مباحث (اردو)				محمد اولیس نجیر			
6	حصیث رسول ﷺ							
7	علم حدیث							
8	فقہ اسلامی							
9	محشر رمضان				ذکر امداد حبیثی			
10	والدین ہماری جنت							
11	وایک تیکن میں شام کے اذکار و خاتمیتی دعائیں (اردو، 4 صفحہ)							
12	قرآن و منون دعائیں (2 صفحہ)							
13	قال رسول اللہ ﷺ				الہدیٰ شعبۃ التحقیق			
14	حسن خلاق							
15	صدقہ و خیرات							
16	رب دنی ملا							
17	عربی گرامر							
18	بیوگی کاسفر							
19	ہمارا بینا ہمارا رنا							
20	ابو حکیم صدیق							
21	اسلامی عقائد							
22	المقینۃ الواسطیۃ				الہدیٰ شعبۃ التحقیق			
23	فتوح کے دور میں							
24	حج ہبہ اللہ							
25	محمد ﷺ کے مقولات اور معاملات				ذکر امداد حبیثی			
26	شبان الحفل				الہدیٰ شعبۃ التحقیق			
27	رجب اور ڈب مرحان							
28	ضفر کمپین اور پر ٹکونی							
29	آخری سفری تباری (اردو)							
30	زادہ راہ (انگلش، اردو)							
31	سرکی دعائیں							
32	لبیک عمرہ							
33	حج و ہجرہ و ہمنانی اور دعائیں							
34	تسلیم قرآن کی دعائیں							
35	حسن بصری							
36	پردستی یا مسافر							
37	نمایز بجماعت کا طریقہ							
38	تیغ							
39	نمایز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں؟							
40	عشرون دلخواہ کرنے کے کام							
41	عشرون دلخواہ بیانی اور تربیتی							
76	ماہ رمضان اور روزے سے متعلق احادیث 29 پوٹر							
77	ذو الحجه کی فضیلت اور کرنے کے کام 22 پوٹر							
78	دواۓ شافعی پوٹر							
79	کھانے میں کے آداب پوٹر							
80	شدت بھوک کے وقت کی دعا							
81	کسی بُتی یا شہر میں داخل ہونے کی دعا							
42	نماز اسقاط	پنچاٹ		نام کتاب و چاٹل	تھم	قیمت آرڈر	مؤلف	
43	جمع کادن							
44	خشل بیٹا اور کن پہنچانے کا طریقہ							
45	درود و سلام۔ اصلاح و تعالیٰ اینی ﷺ							
46	محمد احرام							
47	عید راضھر							
48	انہار بحث کیسے؟							
49	حالات میں کیا کریں؟							
50	تمہارے کام کیوں کریں؟							
51	فیضی یا بخار							
52	پانچ بجے							
53	لبیک عمرہ							
54	الحمدلہ آیتی نظریں							
	کارڈز اپ پڑڑ							
55	فہم القرآن میں مدکار دعا کیں	کارڈ		الہدیٰ شعبۃ التحقیق				
56	حصل ملی میں مدکار دعا کیں							
57	خاطرات کی دعا کیں							
58	میت کی شفیقی کی دعا کیں							
59	صالح اولاد کے لیے دعا کیں							
60	رع و غم کے لیے دعا کیں							
61	رمضان کی دعا کیں							
62	تفہی کے صاحوں کے لیے دعا کیں							
63	نمایز کے بعد کے مندون اذکار							
64	ذکر اُنی							
65	مقبول دعا کیں							
66	حج و شام کے اذکار							
67	تچہر کی دعا							
68	آیات شفا							
69	کنکریات							
70	استغفار اللہ							
71	رشوں کو بوڑھئے							
72	استخارہ کب کیوں اور کیسے؟							
73	محمد احرام پوٹر	پوٹر						
74	ماہ میں 10 پوٹر							
75	امدادیت رسول ﷺ پر 12 پوٹر							
76	ماہ رمضان اور روزے سے متعلق احادیث 29 پوٹر							
77	ذو الحجه کی فضیلت اور کرنے کے کام 22 پوٹر							
78	دواۓ شافعی پوٹر							
79	کھانے میں کے آداب پوٹر							
80	شدت بھوک کے وقت کی دعا							
81	کسی بُتی یا شہر میں داخل ہونے کی دعا							

نمبر شمار	کارڈز اپ میز	قلم	قیمت آرڈر	نمبر شمار	موقاف	نام کتاب و پغالت	قلم	قیمت آرڈر
82	چہ ماہیں تین روزے	پوسٹر		127	Masnun Supplications After Salah			
83	قوس دعا کا صبح			128	Prayers for Attaining Knowledge			
84	آیت لکھی حفاظت کا ذریعہ			129	Supplications for Protection			
85	دجال کے تئے سے پناہ مانگنا			130	Remembrance of Allah			
86	سورہ ابقر کی آخری دو آیات کا فضیلت			131	Supplications for Righteous Children			
87	کاپیاں لوگوں کے 8 زریں اصول			132	Supplications for Ramadan			
88	حضرت اسماعیلؑ تبریزی			133	Supplications for the Forgiveness of the			
89	فرا جہازہ کا طریقہ			134	Supplications for sorrow & distress			
90	حالت حیثیں میں قرآن کی خواست کی رخصت			135	Poster Supplications at the time of severe hunger			
91	دعاۓ استغاث			136	Takbeeraat			
92	تو من کی دعا نہیں	کتاب	137		ہمارے بے			
93	بھجے کی دعا نہیں			138	رمضان سے ذوالحجہ			
94	روکوں کی دعا نہیں			139	مسلم ہبہ ورز (ربہماۓ اساتذہ)			
95	شید و رود کے بعدی دعا نہیں			140	مہری نماز (ربہماۓ اساتذہ)			
96	مختف مواقع کی دعا نہیں			141	مفتاح القرآن انصاب برائے ناظر و دخانی			
97	بک مارک	flash cards	142		رمضان سے ذوالحجہ			
98	انگلی پر دو شک (نام کتاب و پغالت)			143	مسلم ہبہ ورز			
99	Book Word for Word Translation of the Qur'an (Blue Juz')			144	Ramadan Mubarak(Planner) (2 size)			
100	Selected Ayahs of the Qur'an			145	Miftah Al Quran(Quranic Recitation)			
111	Selected Ayahs & Surahs of the Qur'an			146	Miftah Al Quran(Student's Diary)			
102	Selected Surahs of the Qur'an			147	Laylat Al-Qadr activity book			
103	Al-Huda Student Guide			148	متفرقات			
104	Reading & Writing book 1			149	Al-Huda Writing pad (2 sizes)			
105	Quranic & Masnun Supplications 2 sizes			150	کلم پیک / گاؤں / سکاف / الہدی چٹ پیڈ New Release			
106	Wa Iyyaka Nastaa'een and you alone we ask for help			151	تی طبوطات			
107	Qaala Rasul Allah ﷺ			152	سو نے جائیں کا اواب و اذکار کتاب			
108	Sadqah o Khairaat			153	کیفیت تَنْحِيَةِ مُكَبِّلِ الشَّيْطَانِ			
109	Rabbi Zidni Ilma			154	الا ربُّونَ النَّوْرُ			
110	The Month of Ramadan			155	سو نے جائیں کے اذکار			
111	Booklet Prophet Muhammad ﷺ A Mercy For Children			156	ہمیں ہاتھ اور			
112	Prayers For Travelling			157	اللَّهُمَّ اغْفِنْ			
113	Muhammad ﷺ Habits and Dealings			158	شفاء کی دعا نہیں			
114	Supplications for Hajj & Umrah			159	سری کی دعا نہیں			
115	Pamp Peace & Blessings Upon Prophet Muhammad ﷺ			160	Booklet Prayers for Healing			
116	Friday-A Blessed Day			161	Card Ayat Al-Kursi - A source of protection			
117	The Sacred Month of Muharram			162	Card A Precious Moment for Du'a			
118	Ten Blessed Days Of Zul-Hijjah			163	Book دعا کی			
119	Ashrah-e-Zul-Hijjah-Things To Do			164	Posters احادیث پوستر			
120	The Hidden Pearls			165	Booklet My Prayer Tree صلوات نام			
121	New Year			166	Book نظر ثانی شدہ ایاں نستین			
122	Fasting in Ramadan			167				
123	True Love							
124	Tayammum							
125	Supplications for Attaining Taqwa							
126	Astaghfirullah							



رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے  
اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی  
اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔“

(سنن الترمذی 2308)



978-969-8665-74-6



04010084

